



سوال

داڑھی منڈے نے کی امامت کا حکم

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ہمیں ایک داڑھی منڈے امام نے نماز پڑھائی تو کیا اس کے پیچھے ہماری نماز جائز ہے یا نہیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیح السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوٰۃ والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اگر یہ داڑھی منڈا شخص تمہاری مسجد میں مستقل امام ہے تو کوشش کرو کہ اسے بدل کر اس سے بہتر امام مقرر کرو امید ہے تم اہل صلاح و خیر میں سے یقیناً کوئی ایسا آدمی پالو گے جو اس گناہ سے پاک ہو اور اگر یہ امام کسی ادارہ یا مدرسہ میں عارضہ طور کام کے وقت ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو اولاً اسے نصیحت کرو اس برے فعل کے انجام سے ڈراؤ اور اگر وہ داڑھی منڈانے پر اصرار کرے اور توبہ نہ کرے تو کسی ایسے امام کو تلاش کرو جو اس گناہ سے پاک ہو خواہ اس سے قرأت میں کم مرتبہ ہو اور اگر اس نے محض وقتی طور پر ایک نماز پڑھائی ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں کو حرج نہیں جب کہ یہ نماز پڑھانے کے لئے آگے بڑھا ہو اور اس سے بہتر قرأت والا اور کوئی شخص نہ ہو مختصر یہ کہ اس امام کی اقتداء میں ان شاء اللہ نماز صحیح ہوگی جب کہ اسے بھی اور ہر اس مسلمان کو بھی نصیحت کرنا واجب ہے جس سے یہ یا اس طرح اور گناہ سرزد ہوتا ہو

صدا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ

ج 1 ص 510

محدث فتویٰ